



## سوال

(346) مراجعت کیلئے معیار عدت ہے زمانہ نہیں

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر تین ماہ میں دن بعد رجوع کر لیا، میرے رجوع کے بعد اسے حمل قرار پایا اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا کیا اس صورت میں مجھ پر کوئی کفارہ ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس عمل میں کوئی کفارہ تو نہیں ہے، ہال البتہ یہ ضرورت دیکھا جائے گا کہ اگر مراجعت عدت ختم ہونے سے پہلے ہے تو صحیح ہے کیونکہ عورت بسا اوقات تین ماہ بین دن یا اس سے بھی زیادہ دن گزارنے کے بعد بھی تک عدت ہی میں ہوتی ہے کیونکہ جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی عدت تین حیض ہے اور بعض عورتوں کو دو ماہ بعد حیض آتا ہے اس صورت میں اس کی مدت چھ ماہ میں مکمل ہوگی۔

اگر مراجعت عدت مکمل ہونے کے بعد یعنی تین حیضوں کے بعد ہوئی ہے تو پھر صحیح نہیں ہے کیونکہ عدت مکمل کرنے کے بعد عورت اپنے شوہر کیلئے اجنبی بن جاتی ہے اور عقد جدید کے بغیر اس کیلئے حلال نہیں ہوتی اور اگر واقع اسی طرح ہے تو پھر آپ کو اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔

خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ کی تین ماہ میں دن کے بعد کی مراجعت عورت کو تین بار حیض آنے سے پہلے ہوئی ہے تو یہ عورت آپ کی بیوی اور اس سے مراجعت صحیح ہے اور اگر مراجعت عدت مکمل ہونے کے بعد ہوئی ہے تو پھر یہ مراجعت صحیح نہیں اور یہ عورت آپ کی بیوی نہیں ہے لہذا گواہوں کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ ولی کی اجازت سے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ اسلامیہ

کتاب الطلاق: جلد 3 صفحہ 326



## محدث فتویٰ